



سوال

(197) عقد نکاح کا مسنون طریقہ اور خطبہ نکاح

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عقد نکاح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عقد نکاح لہجاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور لہجاء عورت کے ولی یا اس کے وکیل کی طرف سے صادر ہونے والے یہ الفاظ ہیں کہ "میں نے تیرا نکاح کر دیا" یا "میں نے تیری شادی کر دی" یا اس کے مشابہ اور الفاظ اور عقد نکاح کی تکمیل قبول کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ شوہر یا اس کے وکیل کی طرف سے صادر ہونے والے یہ الفاظ ہیں۔ "میں نے اس نکاح کو قبول کیا" یا میں اس پر راضی ہوں" یا اس کے مشابہ کوئی اور الفاظ اور یہ لہجاء و قبول دو عادل گواہوں کی موجودگی ہوگا۔ اس کے عقد نکاح سے پہلے کوئی اور الفاظ یا دعائیں یا قرآت ثابت نہیں البتہ خطبہ مسنون ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُشْفِعُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ مَا نَسَبْنَا أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلا يَهْدِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُوا إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝۱۰۲ ... سورة آل عمران

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَفْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلْقٍ مِنْهَا ذُوجًا وَبَنَاتٍ وَمِنْهَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ ... سورة النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝۷۰ يُصَلِّعْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝۷۱ .. سورة الاحزاب

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ بَدَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مَخْرُوجٍ مِنْهَا فَسَادٌ، وَكُلُّ صَلَاةٍ مِنْ بَنِي النَّارِ

"یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ اپنے دے سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معمود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔"

